

Secondary Script:

یہ اسکول میسنجر سیکنڈری اسکول ٹیلیفون پری رجسٹریشن کال کا (اردو) ترجمہ ہے جو آپ کو انگریزی میں موصول ہوگی:

یہ آپ کے بچے کیلئے ٹورانٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کا ایک بہت اہم پیغام ہے جو اس ستمبر میں گریڈ (بچے سے مخصوص) میں جا رہا ہے۔ (آپ کو آپ کے بچے کیلئے ایک فون کال موصول ہوگی۔ کالوں کی نشاندہی اس گریڈ کے ذریعہ ہوگی جس میں وہ پڑھتے ہیں۔)

وزارتِ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ سیکنڈری اسکول ایک موافقت پذیر ماڈل اور صحت و حفاظت کے بہتر اقدامات کے ساتھ کھلیں گے۔ ٹی ڈی ایس بی میں، طلباء ہر دوسرے دن ذاتی طور پر، تقریباً 15 طلباء کی چھوٹی کلاس سائز میں اسکول میں حاضری دیں گے، جس میں گھر پر سیکھنا جاری رہتا ہے اس میں خود مختارانہ کام کا وقت اور براہ راست آن لائن سیکھنا دونوں شامل ہیں۔

اس کے علاوہ، سیکنڈری اسکول ایک کواڈ میسٹر (quadmester) شیڈول پر چلیں گے جو تعلیمی سال کو ہر 44 دنوں کے چار بلاکوں میں تقسیم کرتا ہے، اور جہاں طلباء ہر کواڈ میسٹر میں دو کورسز لیتے ہیں۔

اگر آپ ستمبر میں اپنے بچے کو ذاتی تعلیم کیلئے اسکول نہ بھیجنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ٹی ڈی ایس بی کے ورچوئل اسکول فار ریموٹ لرننگ (TDSB's Virtual School for Remote Learning) کے ذریعہ آپ کے بچے کیلئے ایک مکمل ڈوری سے سیکھنے کا ماڈل گھر پر دستیاب ہوگا۔ ریموٹ لرننگ ایک مرکزی ورچوئل اسکول ماڈل کے ذریعہ فراہم کی جائے گی کیوں کہ اسکول پر مبنی ایک انفرادی ماڈل کی فراہمی کے لئے کافی وسائل نہیں ہیں۔

آپ کے اسکول کو ستمبر کیلئے کلاس کی فہرستیں بنانے کی ضرورت ہے، لہذا ہم آپ سے ذاتی طور پر (اس کا مطلب ہے اسکول میں) یا ریموٹ لرننگ (اس کا مطلب ہے ورچوئل اسکول) کیلئے اپنے بچے کو اس وقت رجسٹر کروانے کیلئے کہہ رہے ہیں۔

1) ستمبر میں آپ کا بچہ اسکول کیسے واپس جائے گا:

"میرا بچہ ذاتی طور پر شرکت کرے گا" کیلئے 1 دبائیں

"میرا بچہ ورچوئل اسکول فار ریموٹ لرننگ میں حصہ لے گا" کیلئے 2 دبائیں

آپ کی رجسٹریشن کیلئے آپ کا شکریہ۔ اگلے اقدامات کے بارے میں آپ ڈینس اور معلومات حاصل کرنے کیلئے براہ کرم ہماری ویب سائٹ پر جائیں۔ www.tdsb.on.ca